

سر اپائے نورانی شاہ جیلانی محبوب ربّانی

۱۳۲۲ ہجری

الحمد لله و على حبيبه الكريم وأله الصلاة والتسليم

THE EMBODIMENT OF LIGHT, THE KING OF JEELAN, THE BELOVED OF ALLAH.

1322 Hijri

ALL PRAISE TO ALLAH; BLESSINGS AND SALUTATIONS UPON ALLAH'S  
BELOVED, THE NOBLE PROPHET, & UPON THE PROPHET'S PROGENY.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمد حق، نعت نبی، توصیف غوث ----- بعد ازاں سُن طالبِ تعریفِ غوث

Allah's Praise, the Prophet's eulogy and a tribute of the Ghaws; after these, O seeker, hear the  
attributes of the Ghaws!

غوثِ اعظم کے فدائی، کان لا ----- ذکرِ شہ ہے، نذرِ شہ کو جان لا

O the devotee of the Ghaws, be attentive, come closer; this is the King's remembrance, for him  
bring your life as an offer!

حلیہ اقدس کہ عین نور ہے ----- بہجتُ الاسرار میں مذکور ہے

A manifestation of light, his holy appearance is such; in "Bahjatul Asraar", it is recorded as such!

ترجمہ ترتیب وار اُس کا لکھوں ----- گوہر منشور کو لڑیوں میں لوں

So I pen its translation in its proper order; and string the precious gems into proper order.

وہ مبارک نثر ہونثرہ نثار ----- یہ ثریا نظم ہو شعری شِعار

May prose be sacrificed upon that holy scroll; may this lofty poem become a famous symbol.

کان شیخنا شیخ السلام محی الدین أبو محمد عبد القادر الجیلی رضی اللہ

تعالیٰ عنہ

HE IS OUR SHAYKH, SHAYKH ULISLAM, MOHIYUDDIN ABU MOHAMMED, ABD  
ALQADIR ALJEELI - MAY ALLAH BE PLEASED WITH HIM

## نحيف البدن

### SLENDER BODIED

وہ اکہرا جسم نازک خوش نما ----- وہ نحافت میں نزاکت کی ادا

The angular body, thin, and beautiful; the slender body, with a conduct so graceful.

جس پہ واریں خلد میں اپنی پھبَن ----- یا سمیں، نسریں، سمن، گل نسترن

Upon which sacrifice in heaven, their beauty; the flowers of Jasmine, Jonquil, Orchid and Lilly.

## ربع قامہ عریض صدر

### OF MODERATE HEIGHT, WIDE CHESTED

قد میانہ سرو باغِ مصطفیٰ ----- سینہ چوڑا صحنِ باغِ اصفیا

Of moderate height, a cypress in the garden of Mustafa; the wide chest a courtyard of the gardens of Asfiya.

کیوں نہ ہو سینہ کشادہ دلکش ----- حاشیہ ہے شرح صدرِ شاہ کا

Why would not the chest be wide, pleasing to see? On the exegesis of the King's heart, it is a commentary!

## عریض اللحیة طویلها

### HAVING WIDE AND LONG BEARD

ہے عریض اُن کی محاسن اور طویل ----- ہیں جزیل اُن کے محاسن اور طویل

His beard is wide and long; his hairs are strong, and long.

عرض و طولِ ریش وافر باوقار ----- طولِ عرض ساکلاں کے ذمہ دار

The width and length of beard, thick and stately; responsible for lengthy applications of the needy.

## أسمر اللون

### LIGHT BROWN, WHEAT COLORED SKIN

أَسْمَرُ اللَّوْنِ اُنْ كِي رَنْگَتِ گَنْدَمِي ----- خَوْبِي حُسْنِ وَمَلَا حَتَّ سَيَّ بَهْرِي

His complexion is light brown, wheat like; filled with beauty and enduringly attractive.

گَنْدَمِي رَنْگَتِ سَهَانِي دَلِ كَشَا ----- وَه سَهْنَرَا پَهْوَلِ بَاغِ نُورِ كَا

A light-wheat complexion, beautiful, a spectacle of delight; such is the golden flower of the garden of light.

## مَقْرُونِ الْحَاجِبِينَ

WITH JOINT, EYE-BROWS

اَبْرُوئِي پِيُوَسْتِي كِي دَلِ كَشِ بَهَارِ ----- سُو هَلَالِ عِيدِ هُوں جِس پَر نِشَارِ

The joint eyebrows are a spring blossom, so nice; upon it a hundred Eid crescents I would sacrifice!

دُونُوں مَاهِ عِيدِ كِي يَكْبَا هِي دِيدِ ----- لُو مُبَارَكِ قَادِرِيُوں عِيدِ عِيدِ

Combined is the spectacle of the two crescents of Eid; O Qadiris! Congratulations of Eid upon Eid.

شَادِ شَادَاں جَانِ وَ دَلِ قَرْبَاں كَرُو ----- جَانِ كِهْنِي دِي كِي جَانِ تَا زِه لُو

O the happy ones, sacrifice your hearts and lives; give up the tired ones, and gain fresh lives.

شَامِ تَكِ عِيدِ مِه نُو هِي تَمَامِ ----- يِه مِه جَاوِي دِهِي عِيدِ دَوَامِ

The Eid of the new moon lasts only until the evening; this new moon is lasting, the Eid is everlasting.

## أَدْعَجُ الْعَيْنِينَ

HAVING CAPTIVATING EYES

أَدْعَجُ الْعَيْنِينَ هِي وَ صَفِ مَبِينِ ----- لِيْعْنِي آ نَكْحِيں هِيں بَرِي اَوْر سَر مَكِيں

The captivating eyes is an attribute distinct; which means the eyes are large, with black tint.

كِيَا بَرِي اُنْ بَرِي آ نَكْحُوں كِي هُو ----- جُو عِيَاں دِي كِي هِي رَسُوْلُ اللّٰهِ كُو

How can one praise those great eyes? For clearly seen is the Messenger of Allah by those eyes!

كِيَا بَرِي اللّٰهِ اَكْبَرِ آ نَكْحِي هِي ----- دِيْدِ اَكْبَرِ سَيَّ مَكْبَرِ آ نَكْحِي هِي

Allahu Akbar! How great is the eye! Blessed with the great spectacle is the eye!

وہ خدائیں بندہ پرور آنکھ واہ ----- مصطفیٰ میں فیض گستر آنکھ واہ

It beholds the Lord and compassionate for the slave is the eye! It beholds Mustafa, reflecting the beneficence is the eye!

قدرتی بے سرمہ آنکھیں سرگیں ----- باغِ مازاغ البصر سے خوشہ چیں

Without antimony, naturally dark are the eyes; from the garden of "the sight did not waver" benefit the eyes.

ذاصوت جھوری

HAVING RESONANT VOICE

جھوری الصوت خوش اندازہ ہے ----- وہ بلند آوازہ ہے

Resonant and pleasing to hear is his voice; high ranking, with words of high import is the voice.

وسیت بھی و قدر علی و علم و فی

WITH MAJESTIC HEAD, OF HIGH ESTEEM AND FIRM KNOWLEDGE

ہے عجب روشن روش رُتبہ رفیع ----- علم والا کامل و پاک و وسیع

Amazing is his high stature, radiant is his stride; his crown is large, complete, pure and erudite.

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

MAY ALLAH BE PLEASED WITH HIM

بعدِ جدّ اُس جو دپر ہر صبح و شام ----- سو دُرودیں، سو تحیّات، سو سلام

After his ancestor, upon this generosity all mornings and evenings; hundreds of blessings, and salutations and peace greetings.

اُس سرِ پانور پر بعدِ رسول ----- سر سے پاتک ہو دُرودوں کا نزول

After the Messenger, upon this light's embodiment; from head to toe may blessings descend.

بے عدد، بے انتہا، بے حد مدام ----- تاابد ہر آن ہر لحظہ دوام

Without count, without end, infinite, lasting forever; until eternity, at every moment, at all times forever.

## دعا

### PRAYER

یا الہی اُس سرِ اُپا کے لئے ----- قادرِ یوں پر تری رحمت رہے

O Allah! For the sake of his entity; may Your mercy be upon every Qadiri.

تیری رافتِ حفظِ ہر آفت سے ہو ----- اُن سے جو کچھ کام ہو رافت سے ہو

From every calamity, may Your compassion be their protection; may all the works they do, be with compassion.

زندگی بھر ناز و نعمت میں پلیں ----- بعدِ مردن ظلِ عزت میں چلیں

May they be blessed with prosperity and favours all life; and walk in the shade of respect, in the after-life.

جب گروہوں کی پکار اُس جا پڑے ----- یہ پکارے جائیں اُن کے نام سے

When the groups are summoned on the day of resurrection; may the Qadiris be called with his designation.

اُن کی دعوت میں ہو شامل اُن کا نام ----- یَوْمَ تَدْعُو كُلِّ نَاسٍ بِاِیْمَانِ

When he is called upon, may they be with their leader; "On the day when We shall summon every group along with the leader"!

یہ رضا اور اُس کے احبابِ اقربا ----- سب اُنہیں میں پائیں رضوان و رضا

May this slave Raza, his friends and every family member; being among the Qadiris, find paradise and Your good pleasure.

اُن میں ہوں اُن میں رہیں اُن میں مریں ----- اُن میں اُٹھیں عیشِ خلد اُن میں کریں

May they be Qadiris, remain such, and die as Qadiris; rise up as Qadiris, and enjoy Paradise amongst Qadiris.

جیتے جی بندہ غلامِ شاہ ہو ----- بعدِ مردن اُن کی خاکِ راہ ہو

May the bondman whilst alive be a slave of the King; after death be the dust on path of the King.

وہ محرکِ نظم کے محمود جاں ----- سیدِ والا حسبِ صالحِ جواں

The initiator of this poem is Mahmood Jaan; the leader, of pious descent, the virtuous young man.

وہ بھی ہوں مسعود تن، محمود جاں ----- میں بھی ہوں محمود تن مسعود جاں

May he be fortunate, with a praiseworthy life; may I also become praiseworthy, with a fortunate life.

یا اِلٰهَ الْحَقِّ اَجِبْ قَوْلِيْ اَجِبْ ----- اِسْتَجِبْ اِلٰهَ الْاَكْبَرِ اِسْتَجِبْ

O the Truthful Lord, accept my saying, please accept! Accept my prayer, O Allah the Greatest, accept!

Original Work in Urdu by Ala Hazrat Imam Ahmed Rida Khan al-Qadiri.

A humble effort at English translation, by Aqib Farid al-Qadiri, at the request of Hadrat Maulana Abdul Haadi al-Qadiri Sahab, South Africa. Sha'baan 1437 Hijri / May, 2016.